



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 14/10/2022

گورنر HOCHUL نے چھاتی کے کینسر کا شکار ہونے والوں کی صحت یابی کے دوران ان کی مدد کے لیے قانونی مسودے پر دستخط کیے

قانونی مسودہ (A.8537/S.7881) اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ چھاتی کے کینسر کا شکار ہونے والے افراد جو ماسٹیگٹومی کے بعد تشکیل نو کی سرجری کا انتخاب کرتے ہیں ان کے پاس باقاعدہ انشورنس کوریج موجود ہو

اکتوبر میں منائے جانے والے چھاتی کے کینسر سے آگاہی کے مہینے کے دوران گورنر نے قانونی مسودے پر دستخط کیے گورنر

گورنر Kathy Hochul نے آج ایک قانونی مسودے پر دستخط کیے جو چھاتی کے کینسر کا شکار ہونے والوں کی صحت یابی کے دوران مدد کرے گا۔ قانونی مسودہ (A.8537/S.7881) اس بات کو یقینی بنائے گا کہ چھاتی کے کینسر کا شکار ہونے والے جو افراد ماسٹیگٹومی یا جزوی ماسٹیگٹومی کے بعد سینے کی تشکیل نو کی سرجری کروانے کا انتخاب کرتے ہیں ان کے پاس باقاعدہ انشورنس کوریج ہو۔ اس بل پر گورنر نے چھاتی کے کینسر سے آگاہی کے مہینے کے دوران دستخط کیے جو کہ اکتوبر میں منایا جاتا ہے۔

"چھاتی کے کینسر کا شکار افراد کا حق ہے کہ ہمارے نگہداشت صحت کے نظام میں ان کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا جائے،" گورنر Hochul نے کہا۔ "ماسٹیگٹومی کے بعد سینے کی دیوار کی تشکیل نو کی سرجری کا انتخاب کرنے والی خواتین کے پاس اب اس طریقہ کار کے لیے انشورنس کوریج اور اس اختیار کو منتخب کرنے کے لیے ضروری معلومات ہوں گی۔ مجھے چھاتی کے کینسر سے آگاہی کے مہینے کے دوران اس قانون پر دستخط کرنے پر فخر ہے اور میں نیو یارک میں ہر خاتون کو تاکید کرتی ہوں کہ اس سال میموگرام کروائیں۔"

قانونی مسودہ (A.8537/S.7881) اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ چھاتی کے کینسر کا شکار افراد جو ماسٹیگٹومی یا جزوی ماسٹیگٹومی کے بعد سینے کی تشکیل نو کی سرجری کروانے کا انتخاب کرتے ہیں ان کے پاس آپریشن کے لیے باقاعدہ انشورنس کوریج ہو۔ اس نئے قانون کے تحت، چھاتی کی تشکیل نو اور سینے کی دیوار کی تشکیل نو، دونوں انشورنس کے تحت کور ہوں گی، جس سے خواتین کو یہ انتخاب کرنے کا موقع ملے گا کہ وہ ماسٹیگٹومی کے بعد اپنے جسم کو کیسا دیکھنا چاہتی ہیں۔ قانون یہ بھی یقینی بنائے گا کہ ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ سینے کی دیوار کی تشکیل نو کے انتخاب پر بات کریں تاکہ وہ مکمل علم کے ساتھ فیصلہ کر سکیں۔

اندازاً امریکہ میں آٹھ میں سے ایک خاتون کو اپنی زندگی کے دوران چھاتی کے کینسر کی تشخیص کی جائے گی اور بہت سی خواتین اپنے علاج کے حصے کے طور پر اپنے کینسر کو نکلوانے کے لیے ماسٹیگٹومی یا جزوی ماسٹیگٹومی کرواتی ہیں۔ ماسٹیگٹومی یا جزوی ماسٹیگٹومی کے بعد، کچھ خواتین چھاتی کی تشکیل نو کی سرجری کا انتخاب کرتی ہیں جبکہ دیگر سینے کی دیوار کی تشکیل نو کی سرجری کا انتخاب کرتی ہیں؛ اس سے پہلے، قانون انشورنس سے صرف چھاتی کی تشکیل نو کا احاطہ کرنا درکار کرتا تھا لیکن سینے کی دیوار کی تشکیل نو کا نہیں، جس کو بہت سے بیمہ کنندگان نے "کاسمیٹک" کی درجہ بندی میں رکھا ہوا تھا۔

ریاستی سینیٹر Toby Ann Stavisky نے کہا، "ہمارا ماننا ہے کہ خواتین اپنے جسم پر خود مختاری کی مستحق ہیں۔ اگر کوئی خاتون چھاتی کے کینسر سے لڑنے کے لیے ماسٹیگٹومی کرواتی ہیں تو انہیں سرجری کے بعد کے تمام

اختیارات میں سے انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی خاتون سینیے کی دیوار کی تشکیل نو کروانے کا انتخاب کرتی ہیں تو چھاتی کی تشکیل نو کی طرح اس کا احاطہ بھی انشورنس کے تحت کیا جانا چاہیے۔ مجھے اس قانونی مسودے کو رکن اسمبلی Pheffer-Amato کے ساتھ اسپانسر کرنے پر فخر ہے اور میں اس پر دستخط کرنے کے لیے گورنر Hochul کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔"

رکن اسمبلی **Stacey Pheffer-Amato** نے کہا، "آج نیو یارک نے خواتین کو یہ کوریج فراہم کرنے والی ملک کی پہلی ریاست بن کر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ یہ قانون خواتین کو یہ انتخاب فراہم کرتا ہے کہ وہ ماسٹیکٹومی کے بعد اپنا جسم کیسا دیکھنا چاہتی ہیں۔ اس بل پر دستخط کر کے اس کو قانون بنانے کے لیے گورنر Hochul کا شکریہ اور سینیٹر **Toby Ann Stavisky** کا سینیٹ کے ذریعے اس کی حمایت کرنے اور ایک عظیم رہنما ہونے کے لیے شکریہ۔ ہماری ریاست نے یہ ظاہر کرتے ہوئے آگے کی جانب ایک بہت بڑا قدم بڑھایا ہے کہ ہم صرف یہی نہیں چاہتے کہ چھاتی کے کینسر میں مبتلا خواتین فقط زندہ رہیں بلکہ ہم انہیں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔"

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے www.governor.ny.gov
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمبر | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418